

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العدل

القرار

المصدر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار  
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني، ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد الله السلطان

وعضوية القضاة السادة

غازي عازر، كريم الطراونة، محمد متروك العجارمة، جميل المحادين

محكمة التمييز الأردنية

بصفحتها : الجزئية

رقم القضية :

٢٠٠٧/١٥٨٩

المهم : مساعد النائب العام. عمان

المميز ضدهم:

-١

بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٧ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة

استئناف جزاء عمان في القضية رقم ٢٠٠٧/١٣٤٢ فصل ٢٠٠٧/٩/١٨ المتضمن رد

الاستئناف الصادر عن محكمة جنابات الزرقاء رقم ٢٠٠٦/٢٥٢ فصل ٢٠٠٧/٣/٢٩

القاضي:

أولاً: عملاً بأحكام المادة ٢/٢٣٦ من الأصول الجزائية إعلان براءة المتهم

من التهمة المستندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

ثانياً: عملاً بأحكام المادة ١٧٨ من الأصول الجزائية إدانة المتهمين بجنحة

السرقة وفقاً للمادة ٤٠٦ عقوبات والحكم عليهما عملاً ببنات المادة بالحبس لمدة سنة

والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف من تاريخ ٢٠٠٦/٣/٩ ولغاية تاريخ ٢٠٠٦/١/١٤

بالنسبة للمتهم ومن تاريخ ٢٠٠٦/٣/٩ ولغاية تاريخ ٢٠٠٦/١/٥ بالنسبة للمتهم

بہت سے تہذیبی اور اخلاقی مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔  
اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔  
اس کمیٹی کو تمام مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔  
اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔

اس کمیٹی کو تمام مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔  
اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔

- ۱۔
- ۲۔
- ۳۔

اس کمیٹی کو تمام مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔

اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔

اس کمیٹی کو تمام مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔  
اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔  
اس کمیٹی کو تمام مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔  
اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔  
اس کمیٹی کو تمام مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔  
اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔

اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔

اس کمیٹی کو تمام مسائل اور مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جائے۔  
اس کمیٹی کے رکنوں میں سے ایک شخص کو سربراہ اور دوسرے کو نائب سربراہ کے طور پر منتخب کیا جائے۔



لم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً كما طعن مساعد النائب العام بهذا الحكم استئنافاً بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٨ قررت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر تدقيقاً بالفضيلة الاستئنافية رقم ٢٠٠٧/١٣٤٢ رد الاستئنافين موضوعاً.

لم يلاق قرار محكمة الاستئناف قبولاً من مساعد النائب العام فطعن فيه تمييزاً للسجين الواردين بلاحة تمييزه المقدم بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٧.

تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالبة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز .

وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن السبب الثاني والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بتصديق القرار القاضي ببراءة المتهم من الجرم المسند إليه.

وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات وجدت أن البيئة المقدمة ضد المتهم جاءت قاصرة عن إثبات التهمة المسندة إليه لذلك قررت براءته وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلك كونه لا يوجد دليل يورث ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه.

وحيث أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وجدت أنه لا يوجد أي دليل يربط المتهم بالجرم المسند إليه. وحيث أن محكمتنا محكمة قانون فلا رقابة لها على محكمة الموضوع في هذه المسألة الموضوعية التقديرية ما دام أن ما خلصت إليه مستمد من أوراق الدعوى إذاً يكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعن السبب الأول والذي يخطئ محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات بتعديل وصف التهمة من جنابة السرقة إلى جنحة السرقة.

وفي الرد على ذلك نجد أن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الموضوع وهي اتفاق المتهم مع المتهم على سرقة السوبر مارك. وحيث أن المتهم يعمل في السوبر مارك قام بإخفاء المتهم داخل السوبر مارك حيث قام بالسرقة من المحل وقام بفتح فتحة في جدار السوبر مارك من الداخل والمتهم والخروج من هذه الفتحة.

